



سوال

(32) قرأت قرآن کریم کا ایصالِ ثواب مُردوں یا زندوں کو کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قرأت قرآن کریم کا ایصالِ ثواب مُردوں یا زندوں کے لیے کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ طواف نماز اور قرأت قرآن کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن باوجود اس کے یہ کوئی ایسا مشروع فعل نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا حکم دیا جائے یا اس کی ترغیب دلائی جائے بلکہ میت کے لیے دعا ایصالِ ثواب سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِنْ كَانَ صَدَقَةً جَارِيَةً، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّصَالِحُ يَدْعُو لَهُ (1)

ترجمہ: جب انسان مر گیا تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو گیا مگر تین چیزیں ہیں (جن کا ثواب باقی رہتا ہے) ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔

آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے نیک عمل کرے بلکہ فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا اہداءِ ثواب سے بہتر ہے۔

(16) مسلم: 631 الوصیۃ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔



محدث فتویٰ